

لَا تَكُنْ جَعَلْنَا كَثْرَتَهُمْ مِمَّا جَاءَا

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القاری

کی طرف سے وابستگان تحریک کی اخلاقی و روحانی تربیت کے لئے

مَنْ هَلَكَ بِعَمَلِهِ

نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن

365- ایم ماڈل ٹاؤن لاہور 140-140-111-042

تحریک منہاج القرآن دور حاضر میں اصلاح احوال امت کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ دنیا بھر میں اس تحریک کی پہچان اس کے رفقاء و عہدیداران سے ہی ہے، لہذا ہمارا کردار دوسروں کیلئے نمونہ ہونا چاہئے۔ کردار کو اسوۃ ﷺ محمدی کے سانچے میں ڈھالنے کیلئے حضور شیخ الاسلام نے منہاج العمل عطا فرمایا ہے۔ اس منہاج العمل کو تین حصوں عبادات، معاملات اور تحریکی ضروریات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

## ۱۔ عبادات

★ جہاں تک ممکن ہو ہمہ وقت با وضو ہیں اور نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔

★ دن میں 100 مرتبہ درود شریف (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ) 100 مرتبہ استغفار (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) اور 100 مرتبہ

لا اله الا الله کا ذکر کریں اور آخر میں محمد رسول الله سے مکمل کریں۔

★ روزانہ بعد نماز مغرب دو نفل آقا ﷺ کی طرف سے ادا کریں۔

★ ہر مہینے کے پہلے پیر کو روزہ رکھیں

★ ماہانہ شب بیداری اور درس عرفان القرآن میں لازماً شرکت کریں۔

★ نماز مع ترجمہ اور آخری دس سورتیں حفظ کریں۔

★ نماز تہجد کی کوشش کریں۔

★ عرفان القرآن سے روزانہ ایک رکوع ترجمہ کے ساتھ تلاوت کریں اور منہاج

السوی سے روزانہ ایک حدیث پاک کا مطالعہ کریں۔

★ سال بھر میں دس دن کے لئے گوشہ درود میں بطور گوشہ نشین اور مرکز پر سالانہ مسنون

اجتماعی اعتکاف میں اعتکاف بیٹھیں۔

## ۲۔ معاملات

★ امانت، وعدے کی پابندی اور سچ بولنا آپ کا شعار ہو۔

★ احترام انسانیت اور ہر ایک سے تواضع و انکساری سے پیش آنا آپ کا وطیرہ ہو۔

★ اعزاء و اقارب اور ہمسایوں سے حسن سلوک کریں۔

★ رشتہ دار اہل محلہ اور تحریکی وابستگان کی تعزیت، عیادت، خوشی، غمی دریافت احوال اور ملاقات کے لئے ایک شام ضرور مختص کریں۔

★ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ کسی یتیم یا مسکین کو اپنے ساتھ گھر میں کھانا کھلائیں۔

★ خوشی غمی کے مواقع پر غیر شرعی رسومات اور دیگر فضول خرچی سے پرہیز کریں۔

★ رہن سہن میں سادگی اپنائیں۔

★ اہل و عیال کی دینی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔

★ مسجد کی خدمت کو اپنا معمول بنائیں۔

### ۳۔ تحریکی ضروریات

★ ماہانہ زر تعاون باقاعدگی سے ادا کریں۔

★ حسب استطاعت ایثار و قربانی کا بھرپور مظاہرہ کریں اور ماہانہ آمدنی کا کم از کم ایک

فیصد تحریک منہاج القرآن پر خرچ کریں۔

★ دعوت بذریعہ کیسٹ کے منصوبہ میں عملی شرکت کریں اور ہر ماہ ایک نیا رفیق بنائیں۔

★ ہر ماہ مجلہ منہاج القرآن / العلماء / دختران اسلام کا بغور مطالعہ کریں۔



# جملہ عہدیداران کے لئے منہاج العمل

مذکورہ بالا منہاج العمل پر عمل کے ساتھ ساتھ عہدیداران پر درج ذیل امور کی پابندی بھی لازم ہے۔

★ ایام بیض (چاند کی 13، 14 اور 15) کے روزے رکھیں۔

★ نماز باجماعت کا پابندی سے اہتمام کریں۔

★ نماز تہجد پابندی سے ادا کریں جبکہ نماز اشراق اور اوابین ادا کرنے کی کوشش کریں۔

★ آخری دس سورتیں مع ترجمہ اور مسنون قرآنی دعائیں بھی یاد کریں۔

★ ہر پندرہ دنوں کے بعد ایک یتیم یا مسکین کو اپنے ساتھ گھر میں کھانا کھلائیں۔

★ تنظیمی عہدے کے لحاظ سے ماہانہ تنظیمی اجلاس میں باقاعدگی سے شرکت کریں، تنظیمی نظم

اور ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔

★ بالائی سطح سے جاری ہونے والے تحریر کی و تنظیمی احکامات پر عملدرآمد کریں اور کروائیں۔